

## امام مہدی (ع) کا قرآنی تعارف

<"xml encoding="UTF-8?>

### سوال یہ ہے کہ کیا قرآن میں امام مہدی (ع) کا ذکر آیا ہے؟

جواب یہ ہے کہ شخصیات کو کبھی براہ راست متعارف کرایا جاتا ہے جس طرح سورہ آل عمران کی آیت 144 میں رسول اللہ (ص) کو متعارف کیا گیا ہے؛ کبھی اعداد کے ذریعے، جیسے سورہ مائدہ کی آیت 12 جیسے میں بارہ نقباء کو متعارف کیا گیا ہے، یا صفات و خصوصیات کے ذریعے متعارف کرایا جاتا ہے جس کی مثال سورہ اعراف کی آیت 157 ہے؛ یا سورہ مائدہ کی آیت 55 جس میں امیرالمؤمنین (ع) کی ولایت کا اعلان ہے لیکن یہ کام صفات و خصوصیات کے ذریعے انجام دیا گیا ہے۔

موخرالذکر روش - جو صفات کے ذریعے کسی شخصیت کو متعارف کرایا جاتا ہے - شاید بہترین اور موثرترین روش ہے - کیونکہ یہ روش موقع پرستوں اور منفعت پرستوں کا راستہ روک لیتی ہے؛ کیونکہ نام کو جعل کیا جاسکتا ہے لیکن کسی کو خاص صفات سے منصف کرنا اور خصوصیات کا حامل بنانا آسان نہیں ہے۔ چنانچہ خداوند متعال سورہ بقرہ کی آیت 247 میں طالوت کا تعارف نام لے کر کراتا ہے اور بعد کی آیت میں اس کی صفات اور نشانیاں بیان کرتا ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مہدی (ع) کا نام بھی صریحاً قرآن میں ذکر نہیں ہوا ہے جس طرح کہ امیرالمؤمنین (ع) اور دوسرے ائمہ (ع) کے نام بھی قرآن میں صراحةً کے ساتھ بیان نہیں ہوئے ہے اور ناموں پر عدم تصريح مصلحتوں پر استوار ہے جو صرف اللہ کو معلوم ہیں؛ تاہم جان لینا چاہئے کہ نام ذکر کرنا شخصیات کے تعارف کا ذریعہ نہیں ہے اور صفات و خصوصیات سے بھی تعارف کرایا جاسکتا ہے؛ چنانچہ امیرالمؤمنین اور ائمہ معصومین (ع) کی طرح امام مہدی (ع) کو بھی صفات و خصوصیات کے ذریعے متعارف کرایا گیا ہے۔

### قرآن میں حضرت مہدی (ع) کو بعض خصوصیات اور صفات کے ذریعے متعارف کرایا گیا ہے؛

خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے:

{وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرْتْهِا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ} - (1)

"اور ہم نے ذکر (تورات) کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا ہے کہ اس آیت میں زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے" -

حافظ سلیمان بن ابراہیم قندوزی حنفی امام باقر اور امام صادق (علیہما السلام) سے نقل کرتے ہیں کہ "اس آیت میں خدا کے صالح بندوں سے مراد مہدی (عج) اور ان کے اصحاب ہیں" - (2)

مجموعی طور پر مہدویت کے تفکر کی جڑیں کلام الہی میں پیوست ہیں جو انسانی معاشرے کی، تمام پہلووں میں، عدل تک رسائی سے عبارت ہے۔ مہدویت کے محققین کی رائے کے مطابق قرآن کی 250 سے زائد آیات کا تعلق حضرت مہدی (ع) سے ہے اور رسول خدا (ص) اور ائمہ معصومین (ع) سے مروی پانچ سو احادیث و روایات ان آیات کریمہ کی تفسیر میں وارد ہوئی ہیں - (3)

لیکن ہم یہاں ان آیات کریمہ اور احادیث شریفہ کو بوجہ اختصار، ذکر کرنے سے معذور ہیں؛ شائقوں ذیل کے منابع سے رجوع کر سکتے ہیں:

- 1- محمد عابدین زادہ، مہدی در قرآن، ناشر: لابیجی، چ 1380
- 2- فروز رضا، مہدی در قرآن، ناشر رایحہ، چ 1376
- 3- حسینی شیرازی، موعود قرآن، ناشر موسسہ امام مہدی
- 4- حسینعلی سعیدی، فصلنامہ تخصصی انتظار، شماره 6، نام مقالہ: شناخت وصایای خورشید پنہان، ص 299
- 5- گوردی یزدی، انتظار، ناشر سیما و لایت، چ 1380
- 6- علی اکبر تلافی، آیین انتظار، ناشر موسسہ فرینگی نبا، چ 1378
- 7- علی اکبر مغیثی پور، انتظار فرج، نشر ایستا، چ 1380
- 8- تحقیقات جمران، وظایف منتظران، نشر مسجد جمکران، چ 1379
- 9- محمد جواد مولوی نیا- سیما مہدویت در قرآن، ناشر: امام عصر، چ 1381

## مآخذ:

- 1- سورہ انبیاء (21) آیت 105
- 2- ینابیع المودہ - ج 3 ص 243 - عقد الدرر مقدس شافعی، باب 7، ص 217
- 3- معجم احادیث المہدی، شیخ علی کورانی، ص 150